

Q No 6: Translate the following passage into English. (10 Marks).

بہت سے لوگ دنیا میں جان بوجھ کر دھوکہ کھاتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ جس بندے پر اپنے جذبات کا خزانہ لٹا رہے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے۔ اس کے باوجود انسان بڑا خوش فہم واقع ہوا ہے۔ وہ ایک ذرا سی امید اور خوش گمانی کے چکر میں اپنی محبت کے مدار کے ارد گرد چکر لگاتا رہتا ہے کہ شاید کہیں کوئی اندر جانے کا راستہ مل جائے۔ ایسے لوگ جان بوجھ کر اپنے دل کے کہنے پر سراپوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور آخر کار تھک ہار کر گر جاتے ہیں!!

Many of people get deceived knowingly in the world. In fact, they know that the person ^{upon} whom they ^{are} spend lavishly is unable for that. ^{does not deserve that} ^{the man is over confident} Despite this, a man is courteous at all. He walks around his boundary of bre for a little hope and pleasure of the way of entrance. Such people, on the advice of their heart, run ~~behind~~ knowingly and finally, fall down after a long-struggle.

satisfactory

6/10